



Quran
Al Majid

Al Quran

Easy Meanings of Quranic Words
Easy Quranic Grammar

Arabic-Urdu-Roman Urdu-English

www.Quranalkareem.com

This, That...!

No, No...!

m=male f=female s=singular p=plural b=broken d=dual sb=somebody st=something ss=something

this	ye	یہ	هَذَا (m)		no god	nahin mabood	نہیں معبود	لَا إِلَهَ
that	wo	وہ	ذَلِكَ (m)		except Allah	siwaye Allah	سوائے اللہ	إِلَّا اللهُ
this	ye	یہ	هَذِهِ (f)		surely not	hargiz nahin	ہرگز نہیں	كَلَّا
that	wo	وہ	تِلْكَ (f)		not	nahin	نہیں	لَنْ (future)
these	ye sab	یہ سب	هٰؤُلَاءِ (mf)		not	nahin	نہیں	لَمْ (past)
those	wo sab	وہ سب	أُولَئِكَ (mf)		not	nahin	نہیں	مَا
he who	wo koan	وہ کون	الَّذِي (m)		not not	nahin nahin	نہیں نہیں	لَيْسَ (m) لَيْسَتْ (f)
she who	wo koan	وہ کون	الَّتِي (f)		yes indeed	haan zaroor	ہاں ضرور	بَلَى
those who	wo sab	وہ سب	الَّذِينَ (m)		not other	nahin siwaye	نہیں سوائے	غَيْرَ
these	ye sab	یہ سب	هَذِهِ (bp)		besides	siwaye	سوائے	دُونَ
those	wo sab	وہ سب	تِلْكَ (bp)		except	siwaye	سوائے	إِلَّا
those who	wo sab	وہ سب	الَّتِي (bp)		yes	haan	ہاں	نَعَمْ



Whose?

Who?

his	uska	اسکا	اُس... (ms)	he	wo	وہ	هُوَ (ms)
their	unka	انکا	اُنھُمْ... (mp)	them	wo sab	وہ سب	ہُمْ (mp)
your	tera	تیرا	تیرا... (ms)	you	tum	تم	أَنْتَ (ms)
your	tum hara	تمہارا	تُمْ... (mp)	you all	tum sab	تم سب	أَنْتُمْ (mp)
my	mera	میرا	مِی... (mfs)	I	mein	میں	أَنَا (mfs)
our	hamara	ہمارا	ہمّا... (mfp)	we	hum	ہم	ہُمْ (mfp)
her	uska	اسکا	ہا... (fs)	she	wo	وہ	ہی (fs)
their	unka	انکا	ہُنّ... (fp)	they all	wo sab	وہ سب	ہُنّ (fp)
your	teri	تیری	ک... (fs)	you	tou	تو	أَنْتِ (fs)
their	unka	انکا	ہا... (bp)	they all	wo sab	وہ سب	ہی (bp)
their two	un do ka	ان دو کا	ہمّا... (dl)	they both	wo donon	وہ دونوں	ہمّا (dl)
your two	tum do ka	تم دو کا	تُمْ... (dl)	you both	tum donon	تم دونوں	أَنْتُمْ (dl)



Where

Questions?

above	ouper	اوپر	فَوْقَ	what that which	kia wo jo	کیا وہ جو	مَا
under	neeche	نیچے	تَحْتَ	who	kaun	کون	مَنْ
in front of	aage	آگے	بَيْنَ اَيْدِي بَيْنَ يَدَي	when	kab	کب	مَتَى
back	peeche	پچھے	خَلْفَ	where	kahan	کہاں	اَيْنَ
in front	saamne	سامنے	اَمَامَ	how	kaesa	کیسے	كَيْفَ
behind	peeche	پچھے	وَرَاءَ	how many	kitne	کتنے	كَمْ
right oath	seedha qasam	سیدھا قسم	بِیْمِیْنِ اَیْمَانِ (p)	which	kaunse	کون سے	اِسَى
left	ulta baayan	اُلٹے بائیں	شِمَالِ شِمَائِلِ (p)	why	kiyun	کیوں	اِنَى
bet- ween	darm ian	درمیان	بَيْنَ	is it ?	kia hay ?	کیا ہے ؟	اَ، هَلْ
around	atraaf	اطراف	حَوْلَ	what	kiya	کیا	مَاذَا
wher- ever	kahin se bhi	کہیں سے بھی	حَيْثُ	why	kiyun	کیوں	لِمَ لِمَاذَا
wher- ever	kahin bhi	کہیں بھی	اَیْنَمَا	why not	kiyun nahin	کیوں نہیں	لَوْلَا



Miscellaneous

When...?

owner	malik	مالک	ذُو ذَا ذِي	before	pehle	پہلے	قَبْل
owner	malika	مالکہ	ذَات	after	baad	بعد	بَعْد
people	walay	والے	أَوْلُوا أُولِي	that time	wo waqat	وہ وقت	حِین
relati ves	rishtay dar	رشتے دار	أَهْل	when	jab	جب	إِذْ (past)
family	khan dan	خاندان	آل	when	jab	جب	إِذَا (future)
is it not	kia nahin	کیا نہیں	آلا	then	phir	پھر	ثُمَّ
excell ent	umdah	عمدہ	نِعْمَ	thus	tub	تب	فَ
evil	bura	برا	بِئْسَ	nay but	nahin bulke	نہیں بلکہ	بَلْ
that which is evil	wo jo bura hay	وہ جو برا ہے	بِئْسَمَا	near with	qareeb sath	قریب ساتھ	عِنْدَ لَدَى لَدُنْ
similar	aek jessa	ایک جیسا	مِثْلَ	nothing except	nahin magar	نہیں مگر	إِنْ . . . إِلَّا
simili tude	misaal	مثال	مِثْلَ أَمْثَالِ (p)	nothing but	nahin bulke	نہیں بلکہ	مَا . . . إِلَّا
from those who	un main say jo	ان میں سے جو	مِنْ مِنْ + مَنْ	that not	ye ke nahin	یہ کہ نہیں	آلا أَنْ + لَا



Prepositions + مَا

Prepositions

because

is liye k

اسلئے کہ

بِجَمَّا

with
from

sath
say

ساتھ
سے

بِ

about
what

kis
barre
mein

کس بارے
میں

عَمَّا

about
that

baare
mein

بارے میں

عَنْ

in that
which

is mein
jo

اسمیں جو

فِيْمَا

in

mein

میں

فِي

just as

jaisa k

جیسا کہ

كَمَا

as, like

jaisay

جیسے

ك

for
what

kis liye

کس لئے

لِئِمَّا

for

liye

لئے

لِ

from
that

se jo

سے جو

مِمَّا

from

se

سے

مِنْ

as to

jo ke

جو کہ

أَمَّا

towards

taraf

طرف

إِلَى

if
or

agar
ya

اگر
یا

إِمَّا

oath

qasam

قسم

ت

that
it

ye k

یہ کہ

أَتَمَّا

until

yahan
tak

یہاں تک

حَتَّى

verily

beshak

بیشک

إِنَّمَا

upon

oupar

اوپر

عَلَى

as it

jaesa k

جیسے کہ

كَأَمَّا

with

sath

ساتھ

مَعَ

when
ever

jab
kabhi

جب کبھی

كَلَّمَا

and
oath

aur
qasam

اور
قسم

وَ



Prefix for verb

Inna...

surely	yaqeeni	یقینی	قَدْ ماضی	surely	beshak	بیشک	إِنَّ
very soon	bohat juld	بہت جلد	سَ مضارع	that surely	ke beshak	کہ بیشک	أَنَّ
soon	juld he	جلد ہی	سَوْفَ مضارع	as if	jaesa k	جیسے کہ	كَأَنَّ
surely	zarur	ضرور	لَ+فعل+نَّ	but	laekin	لیکن	لَكِنَّ
indeed	beshak	بیشک	لَقَدْ ماضی	perhaps	shaayed	شاید	لَعَلَّ
indeed	zarur	ضرور	لَ	that	ye k	یہ کہ	أَنَّ
must	chahiye ke	چاہیے کہ	لِ لَ امر	if	agar	اگر	إِنَّ
that special	wo khas	وہ خاص	أَلْ	alone	akela	اکیلا	إِنَّمَا
or	ya	یا	أَمْ	possible	mumkin	ممکن	عَسَى
or	ya	یا	أَوْ	when	jab	جب	لَمَّا
some	baaz	بعض	بَعْضُ	if	kaash	کاش	لَوْ
all	sab	سب	كُلُّ	O	aey	اے	يَا
				O	aey	اے	يَا أَيُّهَا



Attributes

Attributes

know er	khab ardar	خبردار	خَبِيرٌ	first	pehla	پہلا	أَوَّل أُولَى (f)
sustai ner	parver digar	پروردگار	رَبِّ	last	aakhari	آخری	آخِر آخِرَة (f)
benefi cent	mehar ban	مہربان	رَحْمَن	other	doosra	دوسرا	آخَر أُخْرَى (f)
peace	amaan	امان	سَلَام	trust worthy	amanat dar	امانت دار	أَمِين
listen er	sunney wala	سننے والا	سَمِيع	seer	dekhney wala	دیکھنے والا	بَصِيرٌ
grate ful	shukr guzar	شکر گزار	شَاكِرٌ	farther	door	دور	بَعِيدٌ
mighty	ghalib	غالب	عَزِيزٌ	most forgiver	tauba qubool kernay wala	توبہ قبول کرنے والا	تَوَّابٌ
forgiv er	maaf kerney wala	معاف کرنے والا	عَفْوٌ	protect or	hifazat kerney wala	حفاظت کرنے والا	حَفِيزٌ
power ful	qudrat wala	قدرت والا	قَدِيرٌ	wise	hikmat wala	حکمت والا	حَكِيمٌ
warn er	daran ey wala	ڈرانے والا	نَذِيرٌ	forbea ring	burd bar	بردبار	حَلِيمٌ
helper	madad kerney wala	مدد کرنے والا	نَصِيرٌ	praise worthy	Tareef wala	تعریف والا	حَمِيدٌ
guard ian	wakeel	وکیل	وَكَيلٌ	hot water friend	garam pani dost	گرم پانی دوست	حَمِيمٌ



Nouns of Superiority

Attributes

most severe	bohat sakhat	بہت سخت	أَشَدُّ	severe	sakhat	سخت	شَدِيدٌ
higher	aala	اعلیٰ	أَعْلَىٰ	exalted	baland	بلند	عَلِيٌّ
most informed	bohat janney wala	بہت جاننے والا	أَعْلَمُ	knower	janney wala	جاننے والا	عَلِيمٌ
nearer	bohat qareeb	بہت قریب	أَقْرَبُ	near	qareeb	قریب	قَرِيبٌ
bigger	bohat bara	بہت بڑا	أَكْبَرُ	big	bara	بڑا	كَبِيرٌ
most	bohat ziyadah	بہت زیادہ	أَكْثَرُ	plenty	ziadah	زیادہ	كَثِيرٌ
better	bohat achha	بہت اچھا	أَحْسَنُ	quick	juld	جلد	سَرِيعٌ
more entitled	bara haqdar	بڑا حقدار	أَحَقُّ	merciful	raham wala	رحم والا	رَاحِمٌ
nearer	naz deek	نزدیک	أَدْنَىٰ	supreme	bara	بڑا	عَظِيمٌ
more unjust	bara zalim	بڑا ظالم	أَظْلَمُ	little	thora	تھوڑا	قَلِيلٌ
more guided	ziadah hidayat wala	زیادہ ہدایت والا	أَهْدَىٰ	noble	baaizzat	باعزت	كَرِيمٌ
nearer	ziadah qareeb	زیادہ قریب	أَوْلَىٰ	subtle	maher ban	مہربان	لَطِيفٌ



Prophets..Others

Allah's Signs

messe nger	rasool	رسول	رَسُول (p)رُسُل	sign	nishani	نشانی	آیة (p)آیات
proph et	nabee	نبی	نَبِيّ (p)أَنْبِيَاء	eviden ce	sabut	ثبوت	بَيِّنَة (p)بَيِّنَات
proph ets	anbia	انبیاء	نَبِيّين نَبِيّون	quran	quran	قران	قُرْآن
Adam Noah Ibrah im	Adam Nooh Ibrah im	آدم نوح ابراهيم	آدَم نُوح إِبْرَاهِيم	cattle	mawes hi	مویشی	أَنْعَام
Lot Ismail Ishaq	Lot Ismail ishaq	لوط اسماعيل اسحاق	لُوط إِسْمَاعِيل إِسْحَاق	mount ain	pahar	پہاڑ	جَبَل (p)جِبَال
Jacob Israel Joseph	Yaqoob Israel Yousef	يعقوب اسرائيل يوسف	يَعْقُوب إِسْرَائِيل يُوسُف	sea	saman dir	سمندر	بَحْر
Hood Shoeb Salih	Houd Shoeb Salih	هود شعيب صالح	هُود شُعَيْب صَالِح	sun	souraj	سورج	شَمْس

Moses	Moosa	موسى	مُوسَى		moon	chand	چاند	قَمَر
Jesus	Isa	عيسى	عِيسَى					
son of	ibn	ابن	ابْنِ					
Mary	maryam	مريم	مَرْيَمَ					

satan	shetan	شیطان	شَيْطَان		night	raat	رات	لَيْل
-------	--------	-------	----------	--	-------	------	-----	-------

Pharaoh	Firoun	فرعون	فِرْعَوْن		day	dinn	دن	نَهَار
---------	--------	-------	-----------	--	-----	------	----	--------

Aad People of Houd	qoum houd	قوم هود	عَاد		earth	zamin	زمین	أَرْض
--------------------------	--------------	---------	------	--	-------	-------	------	-------

Thamoud People of Salih	quom Salih	قوم صالح	ثَمُود		sky heavens	aasman sama wat	آسمان سماوات	سَمَاء سَمَاوَات
-------------------------------	---------------	----------	--------	--	----------------	-----------------------	-----------------	---------------------



Last Day

Last Day

companion	sathi	ساتھی	صَاحِب (p) أَصْحَاب		for ever	hame sha	همیشه	أَبَدًا
-----------	-------	-------	------------------------	--	-------------	-------------	-------	---------

end	anjam	انجام	عَاقِبَة		reward	ajar	اجر	أَجْر (p) أَجُور
-----	-------	-------	----------	--	--------	------	-----	---------------------

torment	azab	عذاب	عَذَاب		term	muddat	مدت	أَجَل
---------	------	------	--------	--	------	--------	-----	-------

chastisement	saza	سزا	عِقَاب		Here after	alakhirat	آخِرَت	الْآخِرَة
--------------	------	-----	--------	--	---------------	-----------	--------	-----------

resurrection	qiamat	قیامت	قِيَامَة		painful	alumnak	المناک	أَلِيم
meeting	mulaqat	ملاقات	لِقَاء		reward	sawab	ثواب	تَوَاب
fixed	mqarar	مقرر	مُسَمَّی		hellfire	taiz aag	تیز آگ	جَحِيم
fire	aag	آگ	نَار		payment	jaza	جزاء	جَزَاء
river	nahar	نہر	نَهْر أَنْهَار (p)		garden	bagh	باغ	جَنَّة جَنَّات (p)
woe unto	brbadi	بربادی	وَيْل		Hell	Jahan nam	جہنم	جَهَنَّم
day	din	دن	يَوْم أَيَّام (p)		reckoning	hisab	حساب	حِسَاب
that day	es din	اس دن	يَوْمِئِذ		hour	gharee	گھری	سَاعَة



Deen

Faith

matter	maamla	معاملہ	أَمْر أُمُور (p)		one	aik	ایک	أَحَد
piety	naiki	نیکی	تَقْوَى		god	mabood	معبود	إِلَه
truth	sach	سچ	حَقِّ		partner	sathi	ساتھی	شَرِيك شُرَكَاء (p)
false	nahuq	ناحق	بَاطِل		witness	gawahi	گواہی	شَهَادَة

wis dom	danish mandi	دانشمندی	حِكْمَة	throne	takhat	تخت	عَرْش
praise	tareef	تعریف	حَمْد	promise	ahad	عہد	عَهْد
faith	deen	دین	دِین	unseen	poshid ah	پوشیدہ	غَيْب
charity	zakat	زکوٰۃ	زَكَاتَة	book	kitab	کتاب	کِتَاب (p) کُتُب
witness	gawah	گواہ	شَهِید (p) شُہدَاء	word	baat	بات	کَلِمَة
prayer	namaz	نماز	صَلَاة	angel	farishta	فرشتہ	مَلک (p) مَلَائِکَة
clear	zahir	ظاہر	مُبِين	treaty	moai hida	معاہدہ	مِیثَاق
light	roshni	روشنی	نُور	one	aik	ایک	وَاحِد



Deeds...

Blessings...



deeds	aamal	اعمال	أَعْمَال (p)	favors	namat ain	نعمتیں	آلاء (p)
good deed	naik amal	نیک عمل	حَسَنَة حَسَنَات (p)	autho rity	huko mat	حکومت	سُلْطَان
evil deed	bura amal	برا عمل	سَيِّئَة سَيِّئَات (p)	grace	mahar bani	مہربانی	فَضْل
better	bahtar	بہتر	خَيْر	water	paani	پانی	مَاء

evil	burai	برائی	شَرّ		domi nion	badsha hat	بادشاہت	مُلک
sin	gunah	گناہ	إِثْم		favor	inaam	انعام	نِعْمَة
sin	gunah	گناہ	ذَنْب (p) ذُنُوب		all	sub	سب	أَجْمَعُونَ أَجْمَعِينَ
sin	gunah	گناہ	جُنَاح		permis sion	ijazat	اجازت	إِذْن
unlaw ful	mum noo	ممنوع	حَرَام		punish ment	aafat	آفت	بَاس
name	naam	نام	إِسْم (p) أَسْمَاء		all	sub	سب	جَمِيع
speech	baat	بات	حَدِيث (p) أَحَادِيث		equal	brabar	برابر	سَوَاء
clean	paak	پاک	طَيِّبَة (p) طَيِّبَات		group	giroh	گروه	فَرِيق

Relatives...

Self (Body parts)...

mother	maan	ماں	أُمّ (p) أُمَّهَات		face	chahra	پہرہ	وَجْه (p) وُجُوْه
father	baap	باپ	أَبْ أَبَتِ (p) آبَاء		eye spring	aankh chashma	آنکھ چشمہ	عَيْن (p) أَعْيُن
wife husb and	biwi shohar	بیوی شوہر	زَوْج (p) أَزْوَاج		sights	nigahin	نگاہیں	أَبْصَار (p)
man	marad	مرد	رَجُل (p) رِجَال		mouths	munh	منہ	أَفْوَاه (p)

woman women	aurat auraten	عورت عورتیں	إِمْرَأَة (p) نِسَاء	tongue zabaan	زبان	لِسَان (p) أَلْسِنَة	
child child ren	bacha bachay	بچہ بچے	وَلَد (p) أَوْلَاد	heart hearts	dil dil	قَلْب (p) قُلُوب	
parent parents	walid waliden	والد والدین	وَالِد وَالِدَائِن	breast breasts	seena seenay	صَدْر (p) صُدُور	
child ren	aulad	اولاد	دُرِّيَّة	hand hath	ہاتھ	يَد (p) أَيْدِي	
son	beta	بیٹا	إِبْن	foot paer	پیر	رِجْل (p) أَرْجُل	
sons	beatay	بیٹے	بَنُوْن بَنِيْن أَبْنَاء	soul jaan	جان	نَفْس (p) أَنْفُس	
broth er	bhaai	بھائی	أَخْ أَخُو أَخْنَا أَخِي	soul rooh	روح	رُوح	
broth ers	bhaai	بھائی	(p) إِرْحْوَان	stren gth taaqaat	طاقت	قُوَّة	
							
World...				People...			
house	ghar	گھر	بَيْت (p) بُيُوت	comm unity jamm at	جماعت	أُمَّة (p) أُمَّم	
abode	jaga	جگہ	دَار (p) دِيَار	people quom	قوم	قَوْم	
world	duniya	دنیا	دُنْيَا	man insan	انسان	إِنْسَان	

way	rah	راه	سَبِيل (p) سُبُل		people	loug	لُوك	نَاس
path	raasta	راسته	صِرَاط		male	marad	مرد	ذَكَر (p) ذُكُور
world	jahan	جہاں	عَالَم (p) عَالَمِينَ		female	aurat	عورت	أُنثَى (p) أُنَاث
trial	aazma ish	آزمائش	فِتْنَة		slave	ghulam	غلام	عَبْد (p) عِبَاد
town	basti	بستی	قَرْيَة (p) قُرَى		enemy	dushm an	دشمن	عَدُو (p) اَعْدَاء
wealth	maal	مال	مَال (p) اَمْوَال		disbeli evers	kuffar	كفار	كُفَّار (p)
provi sion	saman	سامان	مَتَاع		crimi nal	mujr im	مجرم	مُجْرِم
mos que	masjid	مسجد	مَسْجِد (p) مَسَاجِد		chiefs	jamaat	جماعت	مَلَائَة
place abode	jagah maqam	جگہ مقام	مَكَان مَكَانَة		friend	dost	دوست	وَلِيّ أَوْلِيَاء



Quranic Grammar
Past - Present - Future
Command - Forbid

Quranic Grammar

Past – Present – Future

Present Future	Hall Mustaqbil	حال مستقبل	الْمُضَارِع		past	madhi	ماضي	الْمَاضِي
he does he will do	wo karta hay wo karega	وہ کرتا ہے وہ کریگا	يَفْعَلُ		he did	oas nay kia	اس نے کیا	فَعَلَ
they do he will do	wo kartay hain - wo karengay	وہ کرتے ہیں وہ کریں گے	يَفْعَلُونَ		they did	unhon nay kia	انہوں نے کیا	فَعَلُوا
you do you will do (s)	tou karta hay - tuo karega	تو کرتا ہے تو کریگا	تَفْعَلُ		you (s) did	tou nay kia	تو نے کیا	فَعَلْتَ
you do you will do (p)	tum kartay ho tum karogay	تم کرتے ہو تم کرو گے	تَفْعَلُونَ		you (p) did	tum nay kia	تم نے کیا	فَعَلْتُمْ
I do I will do	main karta houn main karonga	میں کرتا ہوں میں کرونگا	أَفْعَلُ		I did	main nay kia	میں نے کیا	فَعَلْتُ
we do we will do	hum kartay hain/hum karengay	ہم کرتے ہیں ہم کریں گے	نَفْعَلُ		we did	hum nay kia	ہم نے کیا	فَعَلْنَا

Quranic Grammar

Command & Forbid

Forbid			النَّهْي		Command			الْأَمْر
don't do (s)	tou nahin kur	تو نہیں کر	لَا تَفْعَلُ		do (s)	tou kur	تو کر	إِفْعَلُ
don't do (p)	tum nahin karo	تم نہیں کرو	لَا تَفْعَلُوا		do (p)	tum karo	تم کرو	إِفْعَلُوا

Command

الْأَمْرُ

Present/Future

الْمُضَارِعُ

Past

الْمَاضِي

10-Babs

باب

إِفْعَلْ

يَفْعَلُ

فَعَلَ

1-فَعَلَ

إِفْتَحَ

open

کھول

khol

يَفْتَحُ

he opens/he will open

وہ کھولے گا / وہ کھولتا ہے

wo kholta hay
wo kholaiga

فَتَحَ

he opened

اس نے کھولا

ous nay khola

فَتَحَ

to open

کھولنا

kholna

فَعَّلَ

يُفَعِّلُ

فَعَّلَ

2-فَعَّلَ

كَذَّبَ

deny

جھٹلا

jhutla

يُكَذِّبُ

he denies/he will deny

وہ جھٹلائے گا / وہ جھٹلاتا ہے

wo jhutlata hay
wo juthlaega

كَذَّبَ

he denied

اس نے جھٹلایا

ous nay jhutlaya

كَذَّبَ

to deny

جھٹلانا

jhutlana

فَاعِلٌ

يُفَاعِلُ

فَاعِلٌ

3-فَاعِلٌ

جَاهَدَ

fight

لڑ

lurr

يُجَاهِدُ

he fights/he will fight

وہ لڑے گا / وہ لڑتا ہے

wo lurta hay
wo laraiga

جَاهَدَ

He fought

وہ لڑا

wo lara

جَاهَدَ

to fight

لڑنا

lurna

أَفْعَلٌ

يُفْعِلُ

أَفْعَلٌ

4-أَفْعَلٌ

أَخْرَجَ

expel

نکال

nikal

يُخْرِجُ

he expels/he will expel

وہ نکالے گا / وہ نکالتا ہے

wo nikalta hay
wo nikaldeg

أَخْرَجَ

he expelled

اس نے نکال دیا

ous nay nikaldia

أَخْرَجَ

to expel

نکالنا

nikalna

تَفَعَّلَ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	5- تَفَعَّلَ
تَعَلَّمَ teach پڑھا parha	يَتَعَلَّمُ he teaches/he will teach وہ پڑھاتا ہے / وہ پڑھائیگا wo parhata hay wo parhaega	تَعَلَّمَ he taught اس نے پڑھایا ous nay parhaya	تَعَلَّمَ to teach پڑھانا parhana

تَفَاعَلَ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ	6- تَفَاعَلَ
تَعَارَفَ know جان jaan	يَتَعَارَفُ he knows/he will know وہ جانتا ہے / وہ جانے گا wo janta ha wo janaga	تَعَارَفَ he knew اس نے جانا ous nay jana	تَعَارَفَ to know جاننا janna

اِنْفَعَلَ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ	7- اِنْفَعَلَ
اِنْقَلَبَ turn مڑ murr	يَنْقَلِبُ he turns/he will turn وہ مڑتا ہے / وہ مڑے گا wo murtaa hay wo murraiga	اِنْقَلَبَ he turned وہ مڑا wo murra	اِنْقَلَبَ to turn مڑنا murrna

اِفْتَعَلَ	يَفْتَعِلُ	اِفْتَعَلَ	8- اِفْتَعَلَ
اِنْتَضَرَ wait انتظار کر intizat kur	يَنْتَظِرُ he waits/he will wait وہ انتظار کرتا ہے / وہ انتظار کریگا wo intizar karta hay wo intizar karaiga	اِنْتَضَرَ he waited اس نے انتظار کیا ous nay intizar kia	اِنْتَضَرَ to wait انتظار کرنا Intizar karna

إِفْعَلْ

يَفْعَلُ

إِفْعَلَّ

9-إِفْعَلَّ

إِخْضَرَ

make green

ہرا کر

hara rang kur

يَخْضِرُ

he makes green
he will make green

وہ ہرا کرتا ہے / وہ ہرا کریگا
wo hara kurta hay
wo hara kraiga

إِخْضَرَ

he made green

اس نے ہرا کیا
ous nay hara kia

إِخْضَرَ

to make green

ہرا کرنا

hara kurna

إِسْتَفْعَلْ

يَسْتَفْعَلُ

إِسْتَفْعَلَّ

10-إِسْتَفْعَلَّ

إِسْتَفْعَرَ

repent

توبہ کر

tauba kur

يَسْتَفْعِرُ

he repents/he will repent

وہ توبہ کرتا ہے / وہ توبہ کریگا
wo tauba kurta hay
wo tauba kraiga

إِسْتَفْعَرَ

he repented

اس نے توبہ کی
Ous nay tauba ki

إِسْتَفْعَرَ

to repent

توبہ کرنا

tauba kurna



Quran
Al Majid

